



میر انیس

(1802 – 1874)

میر انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام میر بر علی تھا۔ ان کے والد میر خلیق بھی ایک معروف مرثیہ گو تھے۔ مرثیہ گوئی کی تاریخ میں میر انیس کا بڑا مرتبہ ہے۔ انیس کے مرثیے کی بہت سی خوبیوں میں بیان کی صفائی، سلاست اور جذبات نگاری کی خاص اہمیت ہے۔ مناظر فطرت کی تصویر کشی اور ڈرامائی تاثر کو ابھارنے میں بھی انھیں بڑی مہارت تھی۔

میر انیس نے مرثیوں کے علاوہ رباعیاں، نوے اور سلام بھی لکھے ہیں لیکن اردو شاعری کی تاریخ میں وہ اپنے مرثیوں کی ہی وجہ سے ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔



5022CH08

رباعیات

(1)

رُتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے
کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی جو ظرف کہ خالی ہے صدا دیتا ہے

(2)

دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی
جو آکے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی

مشق

● معنی یاد کیجیے:

مرتبہ، درجہ	:	رُتبہ
اکساری، عاجزی	:	فروتنی
جن کا دماغ خالی ہو، مراد کم عقل لوگ	:	تہی مغز
تعریف	:	ثنا
برتن	:	ظرف
آواز	:	صدا

سرائے : مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ
فانی : مٹ جانے والا

● غور کیجیے:

- ☆ عربی میں چار کواربع کہتے ہیں۔ رباعی میں چار مصرعے ہوتے ہیں، اس لیے اسے رباعی کہا جاتا ہے۔
- ☆ رباعی کے پہلے، دوسرے اور آخری مصرعے کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔
- ☆ رباعی کی ایک خاص ہیئت ہوتی ہے اور اس کے اوزان بھی مقرر ہیں۔

● سوچیے اور بتائیے:

- 1۔ دل میں فروتنی کو جگہ کون دیتا ہے؟
- 2۔ اپنی ثنا آپ کون کرتا ہے؟
- 3۔ خالی ظرف کے صدا دینے سے کیا مراد ہے؟
- 4۔ شاعر نے دنیا کو سرائے فانی کیوں کہا ہے؟
- 5۔ بڑھاپا اور جوانی کے لیے شاعر نے کیا فرق بتایا ہے؟

● عملی کام:

- ☆ انیس کے علاوہ دوسرے رباعی گو شعرا کی رباعیاں پڑھیے۔